



## اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد **وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا** میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قومِ نوح کے چند نیک لوگوں کے نام ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد **وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا** ”اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو چھوڑنا“ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ قومِ نوح کے نیک آدمیوں کے نام ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کی کوئی یادگار بنائیں وہ جہاں بیٹھتے ان کی یادگار بنا دیتے اور ان کے نام پر اس کا نام رکھتے سو انہوں نے ایسا کیا لیکن ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی یہاں تک کہ وہ بھی فوت ہو گئے اور اصل بات بھی بھلا دی گئی تو ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ معبودان جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ قومِ نوح نے ان کی عبادت کو جاری رکھنے کی ایک دوسری کو وصیت فرمائی جب کہ ان کے نبی نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے روکا تھا یہ دراصل ان کی قوم کے نیک لوگ تھے، لوگوں نے شیطان کے ہتھکڑوں میں آکر ان کی شان میں غلو کیا، یہاں تک کہ ان کی تصاویر نصب کر دیں، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں چل کر یہی تصاویر بت ہو گئیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جانے لگیں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3421>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

